

پارہ ۲۲

22

۳۱. اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے اجر (بہی) دوہرا دیں گے اور اس کے لئے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔

۳۲. اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پریزیگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔

۳۳. اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی گھر والیو! تم سے وہ (ہر قسم کی) گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔

۳۴. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔

۳۵. بیشک مسلمان مرد اور عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرماں برداری کرنے والے مرد اور فرماں بردار عورتیں اور سچی مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور راست باز عورتیں صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں (ان سب کے) لئے اللہ تعالیٰ نے (وسیع مغفرت) اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

* وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا

اور جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کے اور اس کے رسول کی اور عمل کرے گی اچھے ہم دیں گے اس کو

أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٦١﴾ يَنْسَاءَ النَّبِيِّ

اس کا اجر دوگنا اور تیار رکھا ہے ہم نے اس کے لئے رزق کریم / بہترین ۲۲:۶۱ اے بیویو نبی کی

لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْتَنِّي فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

نہیں ہو تم مانند کسی ایک سے عام عورتوں میں ہے اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو نہ تم نرمی کرنا بات میں

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦٢﴾ وَقَرْنَ

ورنہ طمع رکھ بیٹھے گا وہ شخص میں جس کے دل میں کوئی بیماری ہے اور کہو بات معروف - نیکی کی - قاعدے کی - بہی اور قرار سے رہو

فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ

میں اپنے گھروں (میں) اور نہ تم اظہار زینت کرو (جیسا کہ) جاہلیت کا پہلی اور قائم کرو

الصَّلَاةَ وَعَاتِبْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا

نماز اور دینی رہو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی بیشک

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

چاہتا ہے اللہ کہ لے جائے تم سے گندگی کو - ناپاکی کو اے اہل بیت اور پاک کر دے تم کو

تَطْهِيرًا ﴿٦٣﴾ وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ

پاک کرنا ۲۲:۶۳ اور ذکر کرو - یاد کرو - بیان کرو جو پڑھا جاتا ہے میں تمہارے گھروں (میں) سے

آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٦٤﴾

آیات میں (سے) اللہ کی اور حکمت میں سے بیشک اللہ تعالیٰ ہے لطیف باخبر ۲۲:۶۴

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ

اور فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد

وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ

اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں حفاظت کرنے والے

فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

اپنی شرم گاہوں کی اور حفاظت کرنے والیاں اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ

وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٥﴾

اور ذکر کرنے والیاں تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لئے مغفرت کو اور اجر کو بڑے ۲۲:۶۵

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

اور نہیں ہے کسی مومن اور نہ کسی مومنہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی کا کہ ہو

لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

ان کے لئے کوئی اختیار سے ان کے اور جو کوئی نافرمانی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ بہتک گیا بہتکنا

مُبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

کہلہم کہلا ۳۳:۳۶ اور جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے انعام کیا اللہ نے جس پر اور انعام کیا تو نے اس پر

أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ

روک رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی کو اور ڈرو اللہ سے اور تم چھپانے میں اپنے دل میں اپنے نفس میں جو اللہ

مُبْدِيهِ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ

ظاہر کرنے والا اور تم ڈرتے تھے لوگوں سے حالانکہ اللہ زیادہ حق کہ تم ڈرتے اس سے پھر جب پورا کر چکا زید تھا اس کو

مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

اس سے حاجت کو بیاہ دیا ہم نے آپ کو تاکہ نہ ہو پر مومنوں (پر) کوئی تنگی میں

أَزْوَاجٍ أَذْعَبًا بِهَمٍّ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

بیویوں کے اپنے منہ بولے بیٹیوں کی جب وہ پوری کر لیں ان سے حاجت کو اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا بارے میں

﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَسُئِلَ اللَّهُ فِي

۳۳:۳۷ نہیں ہے پر نبی اللہ علیہ وآلہ کوئی حرج اس معاملے جو مقرر کیا اللہ نے اس کے طریقہ اللہ کا میں

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ

ان لوگوں (میں) جو گزر چکے اس سے پہلے اور ہے حکم اللہ کا اندازے میں مقرر کیا ہوا ۳۳:۳۸ وہ لوگ

يَبْلَغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكُنِيَ

جو پہنچاتے ہیں بیغامات اللہ کے اور ڈرتے ہیں اسی سے اور نہیں ڈرتے کسی کو سوائے اللہ کے اور کافی ہے

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن

اللہ حساب لینے والے ۳۳:۳۹ نہیں ہیں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) باپ کسی ایک کے سے تمہارے مردوں میں اور لیکن

رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا ۳۳:۴۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا یاد ذکر بہت زیادہ کثرت سے ۳۳:۴۱ اور تسبیح کرو اس کی

بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

صبح اور شام ۳۳:۴۲ وہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

تاکہ وہ نکالے تم کو سے اندھیروں (سے) طرف روشنی کی طرف اور ہے مومنوں کے ساتھ رحم فرمائے والا ۳۳:۴۳

۳۶. اور (دیکھو) کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔

۳۷. یاد کرو) جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر تو نے اپنے دل میں وہ جو چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار تھا کہ تو اسے ڈرے، پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں، اللہ کا (یہ) حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔

۳۸. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، (بیہی) اللہ کا دستور ان میں بھی رہے جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کئے ہوئے ہیں۔

۳۹. یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لئے کافی ہے۔

۴۰. (لوگو) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو (خوب) جانتا ہے۔

۴۱. مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کیا کرو۔

۴۲. اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔

۴۳. وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں) تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر

بہت ہی مہربان ہے

۵۱. ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ بھی تو انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی ہیں۔

۵۲. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں اور نہ (درست ہے) کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے (نکاح کرے) اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو مگر جو تیری مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (پورا) نگہبان ہے۔

۵۳. اے ایمان والو! جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم بنی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لئے ایسے وقت میں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ (بیان) حق میں شرم نہیں کرتا، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کیلئے کامل پاکیزگی یہی ہے، اور نہ تمہیں جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

۵۴. تم کسی چیز کو ظاہر کر دو چھپا کر رکھو اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔

* تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَقْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ أَبْتَغَيْتَ

آپ دور رکھیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے اور آپ جگہ دیں اپنی طرف جس کو آپ چاہیں اور جس کو آپ چاہیں

مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَمِّيهِنَّ

ان میں سے الگ کر دیں آپ تو نہیں کوئی گناہ آپ پر یہ بات قریب تر ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی نگاہیں

وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَاءِ آتِيَتِهِنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اور نہ وہ غمگین ہوں اور وہ راضی ہوجائیں اس سے جو دیا آپ نے ان کو سب کی سب اور اللہ جانتا ہے

مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ

جو میں تمہارے دلوں میں ہے اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا حلم والا۔ بردبار ۳۳:۵۱ نہیں حلال آپ کے لئے

النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

عورتیں سے اس کے بعد اور نہ کہ آپ بدل ڈالیں بدلے ان کے سے بیویوں میں (سے) اگرچہ اور پسند آئے آپ کو

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

حسن ان کا مگر جن کا مالک ہے آپ کا داہاں ہاتھ اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر

شَيْءٍ رَاقِبًا ﴿٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ

چیز کے نگران ۳۳:۵۲ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم داخل ہو گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے

إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ لِأَنَّهُ وَلَكِنْ

مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لئے طرف کھانے کی (طرف) نہ انتظار کریں والے اس کے پکنے کا۔ اور لیکن

إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسَبِينَ

جب بلائے جاؤ تم تو داخل ہوجاؤ پھر جب کھانا کھاو تو منتشر ہوجاؤ اور نہ آرام بلائے۔ مشغول ہونے والے

لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيهِ مِنْكُمْ

باتوں کے لئے بیشک یہ بات ہے ایذا دہنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو وہ شرماتے جاتے ہیں تم سے

وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ

اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا سے حق (سے) اور جب سوال کرو تم ان سے کسی چیز کا تو سوال کرو ان سے۔ مانگو ان سے

مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

سے پیچھے (سے) پردے کے یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لئے اور ان کے دلوں کے لئے

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ

اور نہیں (مناسب) تمہارے لئے کہ تم ایذا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے

مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

آپ کے بعد کبھی بھی بیشک یہ بات ہے نزدیک اللہ کے بہت بڑی ۳۳:۵۳

إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خَفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

اگر تم ظاہر کرو گے کوئی چیز یا تم چھپاؤ گے تو بیشک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو جاننے والا ۳۳:۵۴

۵۵. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی (میل جول کی) عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں (لونڈی غلام) کے سامنے ہوں، (عورتو!) اللہ سے ڈرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہرچیز پر شاہد ہے۔

۵۶. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو اور خوب سلام (بھی) بھیجتے رہا کرو۔

۵۷. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لئے نہایت رسواکن عذاب ہے۔

۵۸. جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ (بڑے ہی) بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں

۵۹. اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا کریں۔ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

۶۰. اگر (اب بھی) یہ منافق اور وہ جنہوں کے دلوں میں بیماری ہے اور لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی (تباہی) پر مسلط کر دیں گے پر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ (شہر) میں رہ سکیں گے۔

۶۱. ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں

۶۲. ان سے اگلوں نے بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا۔ اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہیں پائے گا۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا

نہیں کوئی گناہ ان (خواتین) پر میں اپنے باپوں کے معاملے میں اور نہ اپنے بیٹوں کے (معاملے میں) اور نہ اپنے بھائیوں کے (معاملے میں) اور نہ

أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ

بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے اور نہ بیٹوں کے (معاملے میں) اور نہ اپنی بہنوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے (معاملے میں) اور نہ جن ان کے (معاملے میں) جن کے مالک ہیں (معاملے میں)

أَيْمَانُهُنَّ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ شَهِيدًا

ان کے دائیں ہاتھ اور ڈرو اللہ سے بیشک اللہ تعالیٰ ہے بربر چیز گواہ

۵۵ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

۳۳:۵۵ بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی (ص) علیہ وآلہ وسلم

ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۵۶ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

جو ایمان لائے ہو درود بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام بھیجنا ۳۳:۵۶ بیشک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں

اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا

اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنت کی ان پر اللہ نے میں دنیا (میں) اور آخرت میں اور تیار کیا ان کے عذاب

مُهَيَّنًا ۵۷ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ

رسوا کرنے والا ۳۳:۵۷ اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے

مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۵۸

جو انہوں نے کماٹی کی۔ یہ قصور تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ ۳۳:۵۸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

اے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور عورتوں کو اہل ایمان کی

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِلْبَابٍ مِّنْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

وہ لٹکائیں اپنے اوپر سے اپنی چادریں میں سے۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں پھر نہ اپنے جلاب میں سے

يُؤْذِينَ وَقَدْ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۵۹ *لَيْنَ لَّمْ يَنْتَهَ الْمُنَافِقُونَ

وہ ستائی جائیں اور یہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ۳۳:۵۹ البتہ اگر نہیں باز لے منافقوں

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ

اور وہ لوگ میں جن کے دلوں (میں) بیماری ہے اور بری خبریں اڑانے والے میں مدینہ (میں)

لَنْغَرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۶۰ مَلْعُونِينَ

ہم ضرور بیچھڑ لگا دیں گے تجھ کو ان کے پھر نہ وہ ہمسایہ رہیں گے آپ کے اس میں مگر بہت تھوڑے ۳۳:۶۰ لعنت کیے گئے

أَيَّمَا تُقِفُوا أَخْذُوا وَقْتِكُمْ بِأَقْتِكُمْ ۶۱ سُنَّةَ اللَّهِ فِي

جہاں کہیں وہ پائے گئے بکڑے گئے اور قتل کر دیے جائیں بری طرح قتل کیا جانا ۳۳:۶۱ طریقہ ہے اللہ کا (معاملے) میں

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۶۲

ان لوگوں کے جو گزر چکے اس سے پہلے اور ہرگز نہ تو پائے گا طریقہ کو اللہ کے رد و بدل ۳۳:۶۲

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ
بِوَجْهِهِ هِيَ أَبِى لَوْكَ كَيْفَ بَشَكَ عِلْمُ اس كَا بِاسِ اللّٰه كَيْ اور كَيْبَا جِزْبَتَا تَجْه كُو

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٢﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ
شَايِد كَيْ قِيَامَت كَيْ بُو قَرِيب بِي ٣٣:٦٢ بِيَشَكَ اللّٰه تَعَالَى اس نِي لَعْنَت كَرِيْمَانِي يِي اور نِيَار كَرِيْمَانِي يِي

لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ وِلْيًا وَلَا نَصِيْرًا
اِن كَيْ لِيْ بُهِيْكَتِيْ بُهِيْ ٣٣:٦٤ بُهِيْشِيْ رِيْبِيْ وَلِيْ بُهِيْ اس مِيْ بُهِيْشِيْ نِي وَه بَانِيْ كِي كُوْنِيْ اور نِي كُوْنِيْ مَدْدَا كَر

﴿٦٥﴾ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ
٣٣:٦٥ جِس دِنِ التُّبْلِيْ كِي اِن كَيْ جِهْرِيْ مِيْ اَك (مِيْ) كَيْبِيْ كِي اِيْ كَاش كِي بُهِيْ اطَاعَت كَرِيْ بِهِيْ اللّٰه كِي

وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرٰءَنَا
اور اطَاعَت كَرِيْ بُهِيْ رَسُوْل كِي ٣٣:٦٦ اور وَه كَيْبِيْ كِي اِيْ وَه سَرْدَارُوْ كِي اِيْ نِيْ سَرْدَارُوْ كِي اور اِيْ نِيْ بُرُوْ كِي

فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا اَتَيْتَهُمْ ضَعْفَيْنِ مِّنَ الْعَذَابِ
تُو اِنِيُوْ نِيْ بُهِيْكَ اَصْل رَاسْتِيْ ٣٣:٦٧ اِيْ دِيْ اِن كُو دُو كُنَا سِيْ عَذَاب مِيْ (سِيْ)

وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
اور لَعْنَت فَرْمَا اِن بَر لَعْنَت بُزِيْ ٣٣:٦٨ اِيْ لُو كُو جُو اِيْمَان لَآئِيْ بُهِيْ نِيْ تَم بُهِيْ جَاوُ اِن لُو كُو كِي طَرَح

ءَاذُوْا مُوسٰى فَبَرّٰهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾
جِنِيُوْ نِيْ مُوسٰى كُو تُو بُرِيْ كَرِيْ اللّٰه نِيْ اس سِيْ جُو اِنِيُوْ نِيْ اور تَهَا بِاسِ اللّٰه كِي بَاعَزَت ٣٣:٦٩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُّصْلِحْ
اِيْ لُو كُو! جُو اِيْمَان لَآئِيْ بُهِيْ ذُرُو اللّٰه سِيْ اور كَيْبُو بَاتِ دَرَسْت ٣٣:٧٠ وَه اَصْلَاح كَرِيْ كَا

لَكُمْ اَعْمٰلِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
تَمِهَارِيْ لِيْ تَمِهَارِيْ اَعْمَال كُو اور بِيْخَش دِيْ كَا تَمِهَارِيْ لِيْ تَمِهَارِيْ كُنَابُوْ كُو اور جُو كُوْنِيْ كِي اِيْ اللّٰه كِي اور اس كِي رَسُوْل كِي

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمٰنَةَ عَلٰى السَّمٰوٰتِ
تُو تَحْقِيْق وَه كَامِيَابِيْ كَامِيَابِيْ بُزِيْ ٣٣:٧١ بِيْشَكَ بُهِيْ بِيْش كِي بُهِيْ نِيْ اِمَانَت كُو بَرِ اَسْمَانُوْ (بَر)

وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبِيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
اور زَمِيْن بَر اور بُهَارُوْ بَر اِن كَار كَرِيْ تُو اِنِيُوْ نِيْ كِي اِن تَهَا سِيْ كُو اور وَه ذَر كِيْ اِس سِيْ اور تَهَا لِيَا سِيْ كُو

اَلْاِنْسٰنُ اِنَّهٗ وَكَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ
اِنْسَان نِيْ بِيْشَكَ وَه يِي بُهِيْ ظَالِم بُهِيْ جَابِل ٣٣:٧٢ نَا كِي عَذَاب دِيْ اللّٰه مَنَافِق مَرْدُوْ كُو

وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ
اور مَنَافِق عُوْرَتُوْ كُو اور مُشْرِك مَرْدُوْ كُو اور مُشْرِك عُوْرَتُوْ كُو اور مَهْرَبَان بُو جَايِيْ اللّٰه

عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾
بَر مَوْمِن مَرْدُوْ (بَر) اور مَوْمِن عُوْرَتُوْ بَر اور يِي اللّٰه تَعَالَى غَفُوْر رَحِيْم ٣٣:٧٣

۶۳. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے! کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔

۶۴. اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔

۶۵. جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔

۶۶. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے (حسرت اور افسوس سے) کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے۔

۶۷. اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔

۶۸. اے ہمارے رب! تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔

۶۹. اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور اللہ کے نزدیک با عزت تھے۔

۷۰. اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی (سچی) باتیں کیا کرو۔

۷۱. تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو یہی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔

۷۲. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے (مگر) انسان نے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جابل ہے۔

۷۳. (یہ اس لئے) کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور

مہربان ہے۔

سورة سکا
مکہ
سورہ نمبر: ۳۴ آیات: ۵۳

۱. تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے آخرت میں بھی تعریف اسی کے لئے ہے، وہ (بڑی) حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے

۲. جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور مہربان نہایت بخشش والا۔

۳. کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے! مجھے میرے رب کی قسم! جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی، اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔

۴. تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوں کا رو کو بہلا بدلہ عطا فرمائے یہی لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

۵. اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔

۶. اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ (سراسر) حق ہے اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔

۷. اور کافروں نے کہا (اؤ) ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

۵۴

۳۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهُ وَمَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے وہ ذات اسے جو میں آسمانوں (میں) ہے اور جو میں زمین (میں) ہے اور اسے سب تعریفیں

فِی الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَکِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝۱۱ یَعْلَمُ مَا یَلْجِجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا

میں آخرت (میں) اور وہ حکمت والا ہے باخبر ہے ۱۱:۲۴ جانتا ہے جو داخل میں زمین (میں) اور جو

یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا وَهُوَ

نکلتا ہے اس میں سے اور جو اترتا ہے سے آسمان (سے) اور جو چڑھتا ہے اس میں اور وہ

الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ۝۱۲ وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ

مہربان ہے بخشنے والا ہے ۱۲:۲۴ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں آئے گی ہمارے قیامت

قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَتَأْتِیَنَّكُمْ عَلٰمٌ الْغِیْبِ ۙ لَا یَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

کہہ دیجئے کیوں نہیں قسم ہے میرے البتہ ضرور آئے گی تمہارے پاس عالم الغیب (کی قسم) نہیں چھپی ہوئی اس سے برابر

ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ

ذرے کے میں آسمانوں (میں) اور نہ میں زمین (میں) اور نہ چھوٹا ہے اس (ذرے) سے

وَلَا اَكْبَرُ ۙ اِلَّا فِی كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ۝۱۳ لَیَجْزِی الَّذِیْنَ

اور نہ بڑا مگر میں ایک کتاب کھلی ۱۳:۲۴ تاکہ جزا دے ان لوگوں کو

ءَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِکَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ

جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے یہی لوگ ان کے لئے بخشش ہے اور رزق

کَرِیْمٌ ۝۱۴ وَالَّذِیْنَ سَعَوْا فِیْٓ اٰیٰتِنَا مُعٰجِزِیْنَ ۙ اُولٰٓئِکَ

عزت والا ۱۴:۲۴ اور وہ لوگ کوشش کی جنہوں نے میں ہماری آیات (میں) عاجز کرنے والے بن کر یہی لوگ

لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجْزِ الْیَمِیْمِ ۝۱۵ وَیَرٰی الَّذِیْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ

ان کے لئے عذاب ہے کا بدترین دردناک ۱۵:۲۴ اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو دئیے گئے علم

الَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۙ هُوَ الْحَقُّ وَیَهْدِیْٓ اِلٰی صِرَاطٍ

کہ وہ چیز اتاری گئی آپ کی طرف سے آپ کے رب کی وہی حق ہے اور وہ رہنمائی کرتی ہے طرف راستے کے

الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ۝۱۶ وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ

زبردست تعریف والے کے ۱۶:۲۴ اور کہا ان لوگوں نے کیا ہم بتائیں تم کو بارے میں ایسے شخص کے

یُنَبِّئُكُمْ ۙ اِذَا مَرَّ قَوْمٌ مِّنْكُمْ لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ۝۱۷

جو خبر دیتا ہے تم کو جب ریزہ ریزہ کو دئیے پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا بیشک تم البتہ میں پیدائش (میں) ہو گئے نئی ۱۷:۲۴

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

کیا اس نے گھڑ لیا پر اللہ (پر) جھوٹ یا اس کو کوئی جنون ہے بلکہ وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے آخرت پر

فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

میں عذاب (میں) بیسیں اور گمراہی میں بیسیں دور کی ۲۴:۸ کیا پہلا انہوں نے طرف اس کے درمیان ان کے ہاتھوں کے نہیں دیکھا (ان کے سامنے)

وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْأَنخَسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ

اور جو ان کے پیچھے ہے سے آسمان (ہے) اور زمین (ہے) اگر ہم چاہیں ہم دھنسا دیں ان کو زمین میں

أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

یا ہم گرا دیں ان پر کچھ نکلے سے آسمان (ہے) بیشک میں اس (میں) نفاشایں البتہ ایک

لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مَتَا فَضْلًا

ہر کے لئے (کے لئے) رجوع کرنے والے ۲۴:۹ اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل

يَجِبَالٍ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَالنَّالِ الْهَدِيدِ ﴿١٠﴾ أَنْ أَعْمَلَ

اے پہاڑوں اور پرندوں کو اور پرندوں کو اور ہم نے اس کے لئے لوہے کو ۲۴:۱۰ کہ بناؤ

سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

کشانہ زربیس اور اندازے پر رکھو میں حلقے (میں) اور عمل کرو نیک بیشک میں جس کے جو تم عمل کرتے رہو

بَصِيرٍ ﴿١١﴾ وَلَسَلِيمَانَ الرِّيحَ غُدُوًّا شَهْرًا وَرَوْحًا شَهْرًا

دیکھنے والا ہوں ۲۴:۱۱ اور واسطے سلیمان کے ہوا کو (مسخر کیا) اس کا چلنا صبح ایک مہینے اور شام کے وقت ایک مہینے کا

وَأَسْلَمْنَا لَهُ وَعَيْنَ الْقَطْرِ وَمَنْ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ

اور بہادری ہم نے اس کے لئے چشمہ بگھلے ہوئے اور سے جنوں (میں) جو کام کرتے تھے اس کے آگے ان سے

رَبِّهِ وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرٍ نَّانُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

اس کے اور جو سرتابی کرنا۔ ان میں سے سے حکم سے ہم چکھاتے اس کو سے عذاب میں (ہے) بھڑکتی ہوئی آگ کے ۲۴:۱۲

يَعْمَلُونَ لَهُ وَمَا يُشَاءُ مِنْ مَّحْرَبٍ وَتَمَثِيلَ وَجْفَانٍ كَالْجَوَابِ

وہ بناتے تھے اس کے جو وہ چاہتا ہے قلعوں میں سے۔ بلند اور تصویریں اور لگن حوض کی طرح

وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ أَعْمَلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ

اور دیگیں کاری ہوئیں۔ عمل کرو اے آل داؤد شکر کے طریقے اور کتنے کم سے میں سے بندوں میں (ہے)

الشُّكْرِ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ

شکر گزار بیسیں ۲۴:۱۳ پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو نہیں خبردار کیا ان کو پر اس کی موت (پر)

إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ

مگر کبڑے نے زمین کے کہا رہا تھا اس کے عصا کو پھر جب گریزا جان لیا جنوں نے

أَنْ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

کہ اگر ہوتے وہ وہ علم رکھتے غیب کا نہ وہ رہتے میں عذاب (میں) رسوا کن ۲۴:۱۴

۸. (ہم نہیں کہہ سکتے) کہ خود اس نے (ہی) اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔

۹. کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لئے جو (دل سے) متوجہ ہو۔

۱۰. اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا اے پہاڑوں! اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی، (یہی حکم ہے) اور ہم نے اسی لئے لوہا نرم کر دیا

۱۱. کہ تو پوری پوری زربیس بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔

۱۲. اور ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔

۱۳. جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً قلعے اور اور مجسے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، اے آل داؤد داؤد اس کے شکر یہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔

۱۴. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب (سلیمان) گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔

۱۵. قوم سبا کے لئے اپنی بستیوں میں (قدرت الہی کی) نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، (ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔

۱۶. لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب (کا پانی) بھیج دیا اور ہم ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو (ایسے) باغ دیئے جو بدمزہ میووں والے اور (بکثرت) جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔

۱۷. ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا۔ ہم (ایسی) سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔

۱۸. ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور (آباد) رکھی تھیں جو سر راہ ظاہر تھیں اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر تھیں، ان میں راتوں اور دنوں کو بھی امن و امان چلتے پھرتے رہو۔

۱۹. لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کر دے چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا اس لئے ہم نے انہیں (گذشتہ) افسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیئے، بلاشبہ ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لئے اس (ماجرا) میں بہت سی عبرتیں ہیں۔

۲۰. اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔

۲۱. شیطان کا ان پر کوئی زور (اور دباؤ) نہ تھا مگر اس لئے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں۔ اور آپ کا رب (ہر) ہرجیز پر نگہبان ہے۔

۲۲. کہہ دیجئے! کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے (سب) کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ ان کا ان میں کوئی حصہ نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ
البتہ تحقیق ہے سبا کے لئے میں ان کے گھروں (میں) ایک نشانی دو باغیں سے دائیں طرف (سے) اور بائیں جانب سے

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ وَبَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ
کھاؤ سے رزق میں (سے) اپنے رب کے اور شکر کرو اس کے لئے شہر پاکیزہ رب بخشش فرمائے والا

۱۵. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ
۲۴:۱۵ بھروہ منہ موز گئے تو بھیجا ہم نے ان پر سیلاب بند تھوڑ (سیلاب) اور بدل کر دیا ہم نے ان کو بادل کے دو باغوں کے

جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِیْ أَكْلِ خَمَطٍ وَّأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ
دو باغ والے مہوے بدمزہ اور جھاؤ کے اور کوئی چیز سے بیری (میں سے) تھوڑی سی

۱۶. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ
۲۴:۱۶ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ اس انہوں نے کفر کیا اور کیا ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً
اور بنائیں نہیں ہم نے ان کے درمیان اور درمیان بستیوں کے وہ جو برکت دی ہم نے اس میں بستیاں ظاہری

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ
اور اندازے پر اس میں چلنے کی منزلیں چلو پھرو اس میں راتوں کو اور دنوں کو امن و امان سے

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ
تو انہوں نے کہا اے ہمارے دوری پیدا درمیان ہمارے سفروں کے اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بنادیا ہم نے ان کو

أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
افسانے باتیں اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو۔ تہر تہر کر دیا ہر طرح منتشر کرنا یقینا میں اس (میں) البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والے ہم نے ان کو

شُكُورٍ ۱۹. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَاتَّ بَعُوهُ إِلَّا
شکر گزار کے ۲۴:۱۹ اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو تو انہوں نے پیروی مگر

فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲۰. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ
ایک گروہ نے سے مومنوں میں (سے) اور نہ تھا کے لئے اس پر ان پر کوئی زور

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ
مگر تاکہ ہم جان لیں جو ایمان لاتا ہے آخرت پر اس سے جو وہ اس میں سے - میں شک میں ہیں

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۲۱. قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن
اور رب تیرا ہر چیز (پر) نگہبان ہے ۲۴:۲۱ کہہ دیجئے پکارو ان بستیوں تمہ - دعوی کرتے سے سچھتے ہوئے ہم نے تمہ سے

دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي
سوا اللہ کے نہیں وہ مالک ہوسکتے برابر ذرے کے میں آسمانوں (میں) اور نہ میں

الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ۲۲.
زمین (میں) اور نہیں ان کے لئے ان دونوں میں کوئی حصہ اور نہیں اس کے لئے ان میں سے کوئی مددگار ۲۴:۲۲

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنِ

اور نہ فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس مگر واسطے اس وہ اجازت اس یہاں تک کہ جب خوف دور سے

قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

ان کے دلوں (سے) کہیں گے کیا کچھ فرمایا تمہارے وہ کہیں گے حق (فرمایا) اور وہ بلند ہے بہت بڑا

﴿٢٣﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ

۲۴:۲۳ کہہ کون رزق دینا ہے تم کو سے (آسمانوں سے) اور زمین سے کہہ دیکھنے اللہ

وَإِنَّا أَوْ أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ

اور بیشک ہم یا تم البتہ ہر ہدایت (ہر) ہو یا میں گمراہی کھلی (گمراہی میں) ۲۴:۲۴ کہہ دیکھنے

لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ

نہیں تم پوچھ جاؤ گے اس کے جو گناہ کیے ہم نے اور نہ ہم پوچھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو ۲۴:۲۵ کہہ دیکھنے

يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتٰحُ الْعَلِيمُ

جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ اور وہ زبردست فیصلہ جاننے والا ہے

﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَهَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ

۲۴:۲۶ کہہ دکھاؤ مجھے ان بستیوں کو ملا دیا تم نے ساتھ شریکوں کو ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

زبردست ہے حکمت والا ہے ۲۴:۲۷ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام تر لوگوں کے لئے

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

خوش خبری اور ڈرانے والا بنا کر اور لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے ۲۴:۲۸

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے ۲۴:۲۹

قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَجِزُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

کہہ تمہارے لئے موعاد ہے کسی - مفرہ نہیں تم تاخیر کر سکتے اس سے ایک گھنٹی اور نہ تم آگے بڑھ سکتے

﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْءَانِ وَلَا

۲۴:۳۰ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہرگز ہم ایمان لائیں گے اس پر قرآن اور نہ

بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ

اس چیز پر درمیان (ان کے ہاتھوں) اور کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے پاس

رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ

اپنے رب کے پھریں گے ان میں سے بعض طرف بعض کی بات کو کہیں وہ لوگ

أَسْتَضْعِفُوا لِّلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا اگر نہ ہوتے تم البتہ ہوتے ہم مومن ۲۴:۳۱

۲۳. شفاعت (شفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لئے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔

۲۴. پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ (خود) جواب دیجئے! کہ اللہ تعالیٰ۔ (سنو) ہم یا تم۔ یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں؟

۲۵. کہہ دیجئے! ہمارے کئے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔

۲۶. انہیں خبر دے دیجئے کہ سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا ہے اور جاننے والا ہے

۲۷. کہہ دیجئے! اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔

۲۸. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں مگر (یہ صحیح ہے) کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے

۲۹. پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سچے ہو تو بتا دو۔

۳۰. جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔

۳۱. اور کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو! اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہونگے کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومنوں میں سے ہوتے۔

۳۲. یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ (نہیں) بلکہ تم (خود) ہی مجرم تھے۔

۳۳. (اس کے جواب میں) یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے، (نہیں نہیں) بلکہ دن رات مکرو فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا ہمارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہونگے اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کئے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

۳۴. اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کیا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں۔

۳۵. اور کہا ہم مال اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیئے جائیں

۳۶. کہہ دیجئے! کہ میرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۳۷. اور تمہارا مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس (مرتبوں) قریب کر دیں ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لئے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے اور وہ نہ ڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔

۳۸. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔

۳۹. کہہ دیجئے! کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا (پورا پورا) بدلہ دے گا، اور سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضِعُوا انْحَنُّ صَدَدًا نَكْمًا

کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے کیا ہم نے روکا تھا تم کو

عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

سے ہدایت (سے) بعد اس کے تمہارے پاس کہ آگئی بلکہ تم تھے مجرم لوگ ۲۴:۲۲ اور کہیں گے وہ لوگ

اسْتَضِعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ اِذْ

جو کمزور بنا کر رکھے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا بلکہ جال نہیں رات کی اور دن کی جب

تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَاَنْدَا اَوْ اَسْرُوْا النَّدَامَةَ

تم حکم دینے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں ساتھ اللہ کے اور ہم بنائیں اس کے لئے گواہ اور وہ چھبائیں گے ندامت کو

لَمَّا رَاوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَعْتَلَّ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوْا

جب دیکھیں عذاب کو اور ہم ڈال دیں گے طوق میں گردنوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا

هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ

کیا وہ جزا دیئے جا رہے مگر جو تھے وہ عمل کرتے ۲۴:۲۳ اور نہیں بھیجا ہم نے میں کسی بستی

مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالِ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِنَا اَرْسَلْتُمْ بِهٖ كَفِرُوْنَ ﴿۲۴﴾

کسی ذرا کے والے کو مگر اس نے اس کے خوش حال لوگوں نے اس کے شک ہم ساتھ اس بھیجے گئے تم اس پر انکاری ہیں ۲۴:۲۴

وَقَالُوْا اِنْحَنُّ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَاَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿۲۵﴾

اور انہوں نے کہا ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں اور نہیں ہم عذاب دیئے جانے والے ۲۴:۲۵

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

کہہ بیشک میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور لیکن اکثر

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ

لوگ نہیں جانتے اور نہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں وہ چیز جو قریب کرتی ہو تم کو

عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَاؤٌ

ہم سے۔ درجے میں۔ مگر جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کئے تو یہی لوگ ان کے لئے جزا ہے

الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرَفٰتِ ءَامِنُوْنَ ﴿۲۷﴾ وَالَّذِيْنَ

دوگنی بوجہ اس انہوں نے اور وہ میں بالاخانوں میں امن سے رہنے والے ہوں گے ۲۴:۲۷ اور وہ لوگ

يَسْعَوْنَ فِيْ ءَايٰتِنَا مُعْجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُوْنَ ﴿۲۸﴾

جو دوز دھوپ میں بہاری آیت عاجز کرنے والے ہو کر یہی لوگ میں عذاب (میں) حاضر کئے جانے والے ہیں ۲۴:۲۸

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهُ و

کہہ بیشک میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لئے وہ چاہتا ہے سے اپنے بندوں (میں سے) اور تنگ کرتا ہے۔ جس کے لئے وہ

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِيْنَ ﴿۲۹﴾

اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز تو وہ بدلہ دیتا ہے اس کا۔ اور وہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں ۲۴:۲۹

۴۰. اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔

۴۱. اور کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔

۴۲. پس آج تم سے کوئی (بھی) کسی کے لئے (بھی کسی قسم کے) نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا اور ہم ظالموں سے کہہ دے گیں کہ اس آگ کا عذاب چکھو جو جسے تم جھٹلاتے رہے۔

۴۳. اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے (اس کے سوا کوئی بات نہیں)، اور کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اور حق ان کے پاس آچکا ہے پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

۴۴. اور ان (مکہ والوں) کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا

۴۵. اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں حصے بھی نہیں پہنچے، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، (پھر دیکھ کہ) میرا عذاب کیسا (سخت تھا)

۴۶. کہہ دیجئے! کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھوڑ کر) وہ دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو سہی، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون تو نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے (سخت) عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔

۴۷. کہہ دیجئے! کہ جو بدلہ تم سے مانگوں وہ تمہارے لئے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔

۴۸. کہہ دیجئے! کہ میرا رب حق (سچی وحی) نازل فرماتا ہے وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأُولَاءِ إِيْسَاءُكُمْ كَانُوا

اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا سب کے سب کو پھر کہے گا فرشتوں سے کیا یہ بیس وہ صرف تمہاری ہی تھے وہ

يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا

عبادت کرتے ۲۴:۴۰ وہ کہیں گے ہاں ہے تو تو ہمارا مولایے کے ان کے سوا بلکہ تھے وہ

يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ قَالُوا مَرْءًا لَّا يَمْلِكُ

عبادت کرتے جنوں کی اکثر ان میں سے ایمان لائے والے تھے ۲۴:۴۱ تواج کے دن نہ مالک ہوگا

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

تم میں سے بعض بعض کے لئے نفع کا اور نہ نقصان کا اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چکھو عذاب

النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

آگ کا وہ جو تھے تم اس کو تم جھٹلاتا کرتے ۲۴:۴۲ اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات روشن

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانْتُمْ يَعْبُدُونَ وَإِنَّا لَنَرَاهُ

وہ کہتے نہیں یہ مگر ایک شخص وہ چاہتا ہے کہ روک دے تم کو اس سے تھے عبادت کرتے تمہارے آباؤ اجداد

وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفِكُ مُفْتَرِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا

اور وہ کہتے نہیں یہ مگر ایک جھوٹ گھڑا ہوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کو جب

جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَاءَ آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ

وہ آگیا ان کے پاس نہیں یہ مگر جادو کھلا ۲۴:۴۳ اور نہیں دیں ہم نے ان کو کوئی کتابیں

يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ

وہ پڑھتے ہوں ان کو اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی نذرانے والا ۲۴:۴۴ اور جھٹلایا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَاءِ آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا

ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور نہیں وہ پہنچے دسویں حصے کو جو دیا تھا ہم نے ان کو تو انہوں نے جھٹلایا

رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿٤٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْطٰكُمْ بٰوْحِدَةٍ أَنْ

میرے رسولوں کو تو کس طرح ہوا میرا عذاب ۲۴:۴۵ کہہ بیشک میں نصیحت کرتا ہوں تم کو ایک بات کی کہ

تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مِثْنَٰی وَفُرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَٰحِبِكُمْ مِّنْ

تم کھڑے ہو اللہ کے دو دو اور اکیلے اکیلے پھر ذرا غور و فکر کرو نہیں تمہارے ساتھی کو کوئی

جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ

جنوں نہیں وہ مگر خبردار کرنے والا تمہارے لئے پہلے آگے عذاب سخت ۲۴:۴۶ کہہ دیجئے

مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ اٰجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اٰجْرِيْ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ وَهُوَ عَلٰی

جو میں نے مانگا کوئی اجر تو وہ تمہارے ہی لئے ہے نہیں میرا اجر مگر بر اللہ (بر) اور وہ بر

كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمَ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾

ہر چیز (بر) گواہ ہے ۲۴:۴۷ کہہ بیشک میرا رب ذالنا ہے حق کو خوب جاننے والا ہے

۲۴:۴۸

۴۹. کہہ دیجئے! کہ حق آچکا باطل نہ پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کرسکے گا۔

۵۰. کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے (کا وبال) مجھ پر ہے اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔

۵۱. اور اگر آپ (وہ وقت) ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے اور پھر نکل بہانے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لئے جائیں گے۔

۵۲. اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے (مطلوبہ چیز) کیسے ہاتھ آسکتی ہے۔

۵۳. اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا، اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پہینکتے رہے۔

۵۴. ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی (انہی کی طرح) شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔

سورة فاطر

مکہ

سورہ نمبر: ۳۵ آیات: ۴۵

۱. اس اللہ کے لئے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو (ابتداء) آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر (قاصد) بنانے والا ہے، مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہرچیز پر قادر ہے۔

۲. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

۳. لوگو! تم پر جو انعام اللہ نے کئے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں لٹے جاتے ہو۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِيهِ الْبَطْلُ وَمَا يُعِيدُ ۴۹ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ

کہہ دیجئے! آگیا حق اور نہیں پیدا کرتا (پہلی بار) باطل اور نہ اعادہ کرتا ہے ۳۴:۴۹ کہہ دیجئے اگر میں بہنک گیا

فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ وَ

تو بیشک میں بہنکتا ہوں پر اپنی ذات (پر) اور اگر میں ہدایت پا گیا پس بوجہ وحی کی میری طرف رب نے بیشک وہ

سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۵۰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ فِرْعَوْنُ أَقْبَلَ فَأَقْبَرُ وَأَخَذُوا مِنْ

سننے والا ہے قریب ہے ۳۴:۵۰ اور کاش تم دیکھتے جب وہ گھبرا تو نہ گھبرا اور بکڑ لے جائیں گے سے

مَكَانٍ قَرِيبٍ ۵۱ وَقَالُوا ءَأَمْتَابُهُمْ وَآنَىٰ لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ

جگہ (سے) قریب کی ۳۴:۵۱ اور وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اس پر اور کہاں ان کے لئے بکڑنا سے

مَكَانٍ بَعِيدٍ ۵۲ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ

جگہ (سے) دور کی ۳۴:۵۲ اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کو اس سے پہلے اور وہ پھینکتے ہیں

بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۵۳ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

بن دیکھے سے جگہ (سے) دور کی ۳۴:۵۳ اور حائل کر دیا ان کے درمیان اور اس کے جو وہ خواہش کرتے ہیں

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ۵۴

جیسے کیا گیا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے بیشک وہ تھے میں شک (میں) ہے چین کرنے والے ۳۴:۵۴ بیش روؤں کے ساتھ

۴۵

سُورَةُ فَاطِرٍ

۳۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي

سب تعریف اللہ کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغمبر والے

أَجْنِحَةٍ مِّثْلَىٰ وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

پروں والے دو، دو اور تین، تین اور چار، چار اضافہ میں بیدائش (میں) جو وہ چاہتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ پر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

ہر چیز پر قادر ہے ۳۵:۱ جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لئے کوئی رحمت تو نہیں روکنے والا اس کو

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۲

اور جو وہ روکتا ہے تو نہیں کوئی بھیجنے والا اس کے بعد اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے ۳۵:۲

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَدْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ

اے لوگو! یاد کرو نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہے کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے علاوہ اللہ کے

يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُوفِّكُونَ ۳

جو روزی دیتا ہوں تم کو سے آسمان (سے) اور زمین سے نہیں کوئی الہ مگر وہی تو کہاں سے تم بھیرے جلتے ہو ۳۵:۳

۴. اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔

۵. لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان غفلت میں ڈالے۔

۶. جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لئے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔

۷. جو لوگ کافر ہوئے ان کے لئے سخت سزا ہے اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان کے لئے بخشش ہے اور (بہت) بڑا اجر۔

۸. کیا پس وہ شخص جس کے لئے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے (کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے)، (یقین مانو) کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔

پس آپ ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔

۹. اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دوبارہ جی اٹھنا (بھی) ہے۔

۱۰. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، جو لوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لئے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا

۱۱. لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں جوڑے جوڑے (مرد و عورت) بنا دیا ہے، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے اور جو بھی بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور اور جس کی گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے۔

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

اور اگر وہ جھٹلائے ہیں آپ کو تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے اور طرف اللہ کی لوٹائے جاتے سب معاملات

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرُبَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

۲۵:۴ اے لوگو! بیشک وعدہ اللہ کا سچا ہے تو نہ دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی

وَلَا يَغْرُبَنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ

اور نہ دھوکے میں اللہ کے دھوکے باز (شیطان) کیونکہ شیطان تمہارے دشمن ہے تو بناؤ اس کو

عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

دشمن بیشک وہ بلاتا ہے۔ اپنے جتنے کو تاکہ وہ ہوجائیں سے ساتھیوں میں سے بھڑکی ہوئی آگ کے ۲۵:۶ وہ لوگ

كُفْرًا وَاللَّهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

جہنم نے کفر کیا ان کے لئے عذاب ہے سخت اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں نے اچھے ان کے لئے

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

۲۵:۷ بہت بڑا بخشش ہے اجر ہے کیا بھلا جو خوبصورت اسی برا عمل اس کا اس کو۔ دیکھنا تو وہ سمجھتا ہے اچھا تو بیشک ہے اس کو

اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ

اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے پس نہ جانے تیرا نفس ان پر

حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

حسرتیں کرتا ہوا بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ۲۵:۸ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا

الرِّيْحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ

ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہیں بادل چلائے ہیں ہم اس کو طرف شہر مردہ پھر زندہ کرتے اس کے زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

بعد مرنے کے اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا ۲۵:۹ جو کوئی ہے چاہتا عزت تو اللہ کے عزت ساری کی ساری

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ

اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمات پاکیزہ اور عمل نیک اوبر جڑھاتا ہے اس کو اور وہ لوگ

يَمَكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ

جو چالبازیاں کرتے ہیں بری۔ ہے ہودہ ان کے لئے عذاب سخت ہے اور مکر ان لوگوں کا وہ غارت ہونے اور چلنے کی

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا

۲۵:۱۰ اور اللہ نے پیدا کیا تم کو سے مٹی (سے) پھر سے نطفے (سے) پھر بنایا تم کو جوڑے

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ

اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ جنم دیتی مگر اس کے علم سے اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا

وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

اور نہیں کمی کی جاتی ہے اس کی مقرر مگر میں بیشک یہ بات بر اللہ (پر) بہت آسان ہے ۲۵:۱۱

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ

اور نہیں کمی کی جاتی ہے اس کی مقرر مگر میں بیشک یہ بات بر اللہ (پر) بہت آسان ہے ۲۵:۱۱

۱۲. اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجهانا اور پینے میں خوشگوار یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو تاکہ تم اس کا ذکر کرو۔

۱۳. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام پر لگا دیا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔

۱۴. اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر (با فرض) سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے شریک اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔

۱۵. اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔

۱۶. اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔

۱۷. اور یہ بات اللہ کو مشکل نہیں۔

۱۸. کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا گو قرابت دار ہی ہو، تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے نفع کے لئے پاک ہوگا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا

اور نہیں برابر ہوسکتے دوسمندر یہ مینھا ہے پیاس بجهانے والا خوش گوار۔ اسکا پانی اور یہ

مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ

کھاری ہے نہایت تلخ اور سے ہر ایک تم کھاتے ہو گوشت تروتازہ تم نکال لیتے ہو

حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

زیورات جس کو تم پہنتے ہو اور تم کشتیوں کو اس میں پھاڑنے والی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل (سے)

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ

اور تاکہ تم تم شکر ادا کرو ۲۵:۱۲ داخل کرتا ہے رات کو میں دن (میں) اور داخل کرتا ہے

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي

دن کو میں رات (میں) اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو سب کے سب چل رہے ہیں

لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ

ایک وقت تک کے لئے مقررہ یہ ہے اللہ رب تمہارا اسی کے بادشاہت اور وہ بستیاں

تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

تم پکارتے ہو کے اس کے سوا نہیں مالک ہوسکتیں کی کھجور کی گھٹلی کے دھاگے میں سے (کسی چیز کی) ۲۵:۱۳ اگر

تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

تم پکارتے ہو ان کو نہیں وہ سنتے تمہاری دعا کو اور اگر وہ سن لیں نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

اور دن قیامت کے وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تمہارے لئے خیر رکھنے والے کے

﴿١٤﴾ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ

۲۵:۱۴ اے لوگو تم محتاج ہو طرف اللہ کے اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے۔ بے پرواہ ہے

الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

تعریف والا ہے ۲۵:۱۵ اگر وہ چاہے لے جائے تم کو اور لے آئے ایک مخلوق نئی ۲۵:۱۶

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ

اور نہیں یہ پر اللہ تعالیٰ دشوار اور نہ بوجھ اٹھانے والا کوئی بوجھ کسی دوسرے کا اور اگر

تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

پکارے گا بوجھ سے لدا ہوا طرف اس کے اٹھانے کی نہ اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی اور اگرچہ ہو دار قرابت (دار)

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

بیشک تم خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر اور وہ قائم نماز

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بیشک وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لئے اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے ۲۵:۱۸

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ

اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی

۱۹. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔

۲۰. اور نہ تاریکی نہ روشنی۔

۲۱. اور نہ جھاؤں نہ دھوپ۔

۲۲. اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے،

اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے،

اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں

میں ہیں۔

۲۳. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔

۲۴. ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری

سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے

اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں

کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔

۲۵. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو

جو لوگ ان سے پہلے ہو گئے ہیں انہوں

نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس بھی ان کے

پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں

لے کر آئے تھے۔

۲۶. پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو

میرا عذاب کیسا ہو۔

۲۷. کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم

نے اس کے ذریعہ سے مختلف رنگوں کے پھل

نکالے اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید

اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں

اور بہت گہرے سیاہ۔

۲۸. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور

چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں ان کی

رنگتیں مختلف ہیں، اللہ سے اس کے وہی

بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی

اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔

۲۹. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں

اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ

ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں پوشیدہ

اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے

امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی۔

۳۰. تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور

ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے بیشک وہ

بڑا بخشنے والا قدر دان ہے۔

﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الحُرُّ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا

۲۰. اور نہ سایہ اور نہ دھوپ کی تیش ۲۱. اور نہ برابر ہو سکتے زندہ اور نہ

الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي

مردے بیشک اللہ تعالیٰ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے اور نہیں تو سنوئے والا ان کو میں

الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا

جو قبروں میں ہیں ۲۲. نہیں ہے تو خبردار مگر ۲۳. بیشک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری

وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ

اور ڈرانے والا بنا کر اور اگر کوئی بھی امت مگر گزرا ہے اس میں خبردار کرنے والا۔ ڈرانے والا اور اگر وہ جھٹلاے ہیں آپ کو

فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

تو تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کے پاس رسولوں نے ساتھ روشن دلائل کے

وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ساتھ صحیفوں کے اور ساتھ کتاب کے روشن ۲۵. پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

تو کس طرح ہوا میرا عذاب۔ میری سزا ۲۶. کیا نہیں تیرے بیشک اللہ نے اتارا سے آسمان (سے)

مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ

پانی پھر نکالے ہم نے اس کے پھل مختلف ہیں رنگ ان کے اور سے پہاڑوں میں (سے)

جُدُدٍ بَيْضٍ وَحُمُرٍ مُّخْتَلِفٍ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴿٢٧﴾

دھاریاں ہیں۔ سفید اور سرخ مختلف ہیں رنگ ان کے اور کالی سیاہ ۲۷. نالیوں میں

وَمِنَ النَّاسِ وَالذِّئَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَكَذَلِكَ

اور سے لوگوں میں (سے) اور جانوروں میں سے اور مویشیوں میں سے مختلف ہیں رنگ ان کے اسی طرح

قَفَا إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

بیشک ڈرتے ہیں اللہ سے سے اس کے بندوں علماء۔ جاننے والے بیشک اللہ تعالیٰ زبردست ہے بخشنے والا ہے ۲۸. قاف

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا

بیشک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں سے جو

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُم

رزق دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور ظاہری امید رکھتے ہیں ایک تجارت کی ہرگز نہ جو خسارہ پائے گی ۲۹. تاکہ وہ بولے بولے دے انہیں

أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهٗ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

اجران کے اور زیادہ دے ان کو سے اپنے فضل (سے) بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدر دان ہے ۳۰. ۲۵:۲۰

۳۷

۳۱. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے

۳۲. پھر ہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں، یہ بڑا فضل ہے۔

۳۳. وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اور پوشاک ان کی ریشم کی ہوگی۔

۳۴. اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قادران ہے۔

۳۵. جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لاتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔

۳۶. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

۳۷. اور وہ لوگ جو اس طرح چلائیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے، (اللہ کہے گا) کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ (ایسے) ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

۳۸. بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بیشک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

اور جو چیز وحی کی ہم نے آپ کی طرف سے (کتاب میں) وہی حق ہے تصدیق کرنے والی (اس کے) پہلے

يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ

اس سے پہلے بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں (بہتر) بوری طرح دیکھنے والا ہے پھر وارث بنایا ہم نے (کتاب کا)

الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ

ان لوگوں کو جن لیا ہم نے سے اپنے بندوں (میں سے) تو ان میں سے بعض ظالم ہیں اپنے آپ پر اور ان میں سے

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ لَهُ هُوَ

درمیانہ روہیں۔ بیچ کے راستے پر ہیں اور ان میں سے (سبقت لے جانے والے ہیں۔) ان کے نیکیوں میں (ان کے) وہ

الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ

فضل ہے بڑا (۳۰:۲۲) باغات ہیں ہمیشگی کے وہ داخل ہوں گے ان میں پہنائے جائیں گے

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

اس میں سے کنگنوں میں (سے) کے سونے (کے) اور موتیوں کے اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا (۳۰:۲۳)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے وہ ذات جو لے گیا ہم سے غم کو بیشک رب ہمارا (بہتر) بخشنے والا

شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَآيَمَسُّنَا

قدردان ہے (۳۰:۲۴) جس نے (نہر) لیا ہم کو گھر (میں) قیام کے سے اپنے فضل (سے) نہیں چھوئے گی ہم کو

فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ

اس میں کوئی مشقت اور نہیں چھوئے گی ہم کو اس میں کوئی تکان۔ (۳۰:۲۵) اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے

نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ

آگ ہے جہنم کی نہ پورا کیا جائے گا۔ نہ فضلہ کیا جائے گا اور نہ (کہ وہ) مرجائیں اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے

عَذَابِهَا كَذَلِكَ نُجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرَّخُونَ

اس کے عذاب میں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر (ناشکے کو) (۳۰:۲۶) اور وہ (چلائیں گے)

فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَدَقَاتٍ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴿٣٧﴾

اس میں (کہیں گے) ہمارے نکال ہم کو ہم عمل کریں اچھے (علاوہ) اس کے جو تھے ہم ہم عمل کرتے

أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا تَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكَّرٍ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴿٣٨﴾

کیا بھلا نہیں ہم نے عمر دی تم کو کہ نصیحت پکرتا اس میں جو نصیحت لینا چاہتا تھا اور آگیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

ہیں چکھو پس نہیں ظالموں کے لئے کوئی مددگار (۳۰:۲۷) بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے

غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے بیشک وہ جاننے والا ہے (بہت) سینوں کے (۳۰:۲۸)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا

وہ اللہ وہ ذات ہے اس نے بنایا تم کو جانشین میں زمین (میں) تو جو کوئی کفر کرے تو اسی پر ہی ہے اس کا کفر اور نہیں

يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر نزدیک ان کے رب کے مگر غضب میں اور نہیں اضافہ کرے گا کافروں کو

كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

ان کا کفر مگر خسارے میں ۳۹:۳۹ کیا دیکھا تم نے اپنے شریکوں کو وہ جن کو تم بکارتے تھے سے

دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

سوا اللہ کے دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں (ہے) یا ان کے لئے کوئی حصہ ہے آسمانوں (میں)

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ

یا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب تو وہ اوپر ایک دلیل اس سے بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالموں نے

بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ * إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ

ان میں سے بعض بعض سے مگر دھوکے کا ۴۰:۴۰ بیشک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو

وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ

اور زمین کو کہ تل جائیں گے اور اگر وہ دونوں نہیں ان دونوں کو تھامنے والا کوئی ایک اس کے بعد

إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ

بیشک وہ ۴۱:۴۱ حلم والا بخشنے والا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسمیں اپنی البتہ اگر آیا ان کے پاس

نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ

کوئی نذیر ضرور وہ زیادہ ہدایت یافتہ سے کسی ایک سے امتوں میں سے پھر جب آگیا ان کے پاس نذرانے والا

مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿٤٢﴾ أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ

نہ ان میں اضافہ کیا مگر نفرت کو ۴۲:۴۲ تکبر کی وجہ سے میں زمین (میں) اور چال کی بری

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ

اور گہرٹی چال نہیں اور ان کی بری مکر اس کے اہل کو نہیں وہ انتظار کرتے مگر طرفوں کا سنت کا

الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

پہلوں کے نہیں تو ہرگز تو پلے گا طرفے کے لئے اللہ کے کوئی تبدیلی اور ہرگز تو پلے گا سنت کو اللہ کی تبدیلی

﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

۴۳:۴۳ کیا پہلا وہ چلے بہرے میں زمین (میں) تاکہ وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا سے

قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ

جو ان سے پہلے تھے اور تھے وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کرے اس کو کوئی چیز

فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

میں آسمانوں (میں) اور نہ میں زمین (میں) بیشک وہ ہے جائزے والا قدرت رکھنے والا ۴۴:۴۴

۳۹. وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور کافروں کے لئے ان کے کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔

۴۰. آپ کہیئے! کہ تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ یعنی مجھے یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا (جز) بنایا ہے یا ان کا آسمانوں میں کچھ سا جہا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔

۴۱. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم اور غفور ہے۔

۴۲. اور ان کفار نے بڑی زور دار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہونگے، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آپہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔

۴۳. دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔

۴۴. اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔

۴۵. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے سو جب ان کی میعاد آپہنچے گی (ان کو نہیں بچ سکتا) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔

سورة البُرْجِ

مکہ

سورہ نمبر: ۳۶ آیات: ۸۳

۱. یسین۔

۲. قسم ہے قرآن با حکمت کی۔

۳. کہ بیشک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔

۴. سیدھے راستے پر ہیں۔

۵. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

۶. تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو (اسی وجہ سے) یہ غافل ہیں۔

۷. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔

۸. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے انکے سر اوپر الٹ گئے ہیں۔

۹. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی۔ جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔

۱۰. اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

۱۱. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمن سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور با وقار اجر کی خوش خبریاں سنا دیجئے۔

۱۲. بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا

اور اگر بکڑے اللہ لوگوں کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کماٹی کی نہ چھوڑے ہر اس کی پشت (پر) سے

مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فِإِذَا

کوئی جاندار لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو تک مدت مقررہ پھر جب

جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

آجاتی ہے ان کی مقررہ مدت توبیشک اللہ تعالیٰ ہے اپنے بندوں کے ساتھ دیکھنے والا ۲۵:۴۵

سُورَةُ الْبُرْجِ

۸۳

۳۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَس ۝ وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ

یس ۱ قسم ہے قرآن حکیم کی ۲ بیشک آپ البتہ سے ہیں رسولوں میں (سے) ہیں ۳ بر

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنذِرَ قَوْمًا

راستے کی طرف سیدھے ۴ نازل کردہ ہے زبردست رحم فرمانے والی ۵ تاکہ تم خبردار کرو قوم کو

مَا أَنْذَرْنَا آبَاؤُهُمْ فَهَمَّ غَافِلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ

نہیں خبردار کیے گئے ان کے آباؤ اجداد سے وہ غافل ہیں ۶ تحقیق ثابت ہوئی البتہ حق ہوئی بات بر ان کی اکثریت (پر)

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَىٰ

کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے ۷ بیشک ڈال دئے ہم نے میں ان کی گردنوں میں طوق تو وہ تک

الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا

ٹھوڑیوں تک ہیں تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں ۸ اور بنادی ہم نے سے ان کے آگے ایک دیوار (از)

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ وَسَوَاءٌ

اور سے ان کے پیچھے سے ایک دیوار (از) پھر ڈھانپ دیا ہم نے ان کو پس وہ نہیں وہ دیکھ پاتے ۹ اور برابر ہے

عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّمَا تُنذِرُ

ان پر خواہ تم ڈراؤ ان کو یا نہ تم ڈراؤ ان کو نہیں وہ ایمان لائیں گے ۱۰ بیشک تم خبردار کر سکتے ہو

مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

اس کو جو پیروی کیے نصیحت کی اور ڈرا ہے ہے رحمن سے ساتھ غیب کے غائبانہ طور پر دے دو اس کو پس خوش خبری بخشش کی

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّا نَحْنُ مُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا

اجر کی عزت والے ۱۱ ہم ہی بیشک ہم زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا

وَأَشْرَهُمْ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

اور ان کے آثار کو اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو میں میں ایک کتاب میں واضح ۱۲

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

اور بیان کرو ان کے لیے ایک مثال (بستی والوں کی) جب آئے ان کے پاس (بھیجے ہوئے پیغمبر)

﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا

۳۶:۱۳ جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو تو فوت دی ہم نے تیسرے کے ساتھ ایک تو انہوں نے کہا

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

بیشک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ۳۶:۱۴ انہوں نے کہا تم مگر ایک انسان ہماری طرح

وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا

اور نہیں نازل کیا رحمن نے کسی چیز کو نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ۳۶:۱۵ انہوں نے کہا

رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

ہمارا رب جانتا ہے تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہی ہیں ۳۶:۱۶ اور نہیں ہم پر مگر پہنچا دینا

الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْنًا لَمْ تَنْتَهُوا لِنَرْجُمَنَّكُمْ

صاف صاف - کہہنا ۳۶:۱۷ انہوں نے کہا بیشک منحوس سمجھتے تم کو البتہ اگر نہیں تم باز آتے البتہ ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تم کو

وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طِيرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ

اور البتہ ضرور جھوٹے گانے کو تمہاری طرف عذاب درد ناک ۳۶:۱۸ انہوں نے کہا تمہاری فال بد تمہارے ساتھ ہے کیا اگر

ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ

نصیحت کرنے کے تم بلکہ تم قوم بے ہوش ۳۶:۱۹ اور آیا سے دور دراز شہر کے حصے سے

رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا

ایک شخص دوڑتا ہوا بولا اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی ۳۶:۲۰ پیروی کرو

مَنْ لَا يَسْأَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَالِي لَوْلَا أَعْبُدُ

جو نہیں سوال کرتے تم سے کوئی اجر اور وہ ہدایت یافتہ ہیں ۳۶:۲۱ اور کیا ہے میرے کہ نہ میں عبادت کروں

الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

اس ذات کی جس نے پیدا کیا مجھ کو اور اس کی طرف تم لوٹنے جاؤ گے ۳۶:۲۲ کیا میں بناؤں اس کے سوا کچھ الہ

إِنْ يُرِدِنَ الرَّحْمَنُ بَصُرًا لَا تَغْنَعُنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا

اگر ارادہ کرے رحمن کسی تکلیف کا نہ نہ کام آئے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی

وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي ءَأَمِنْتُ

اور نہ وہ بچاسکیں گے مجھ کو ۳۶:۲۳ بیشک تب البتہ گمراہی میں کھلی ۳۶:۲۴ بیشک میں میں ایمان لایا

بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي

ساتھ تمہارے رب کے پس سنو مجھ کو ۳۶:۲۵ کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں اس نے کہا اے کاش میری قوم

يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

جان لیتی ۳۶:۲۶ بوجہ جس بخش دیا مجھے میرے رب نے اور بنا دیا مجھ کو میں سے باعزت لوگوں ۳۶:۲۷

۱۳. اور آپ ان کے سامنے ایک مثال (یعنی ایک بستی والوں کی مثال (اس وقت کا) بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں (کئی) رسول آئے۔

۱۴. جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے (اول) دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔

۱۵. ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔

۱۶. ان (رسولوں) نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بیشک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔

۱۷. اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔

۱۸. انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور ضرور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔

۱۹. ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔

۲۰. اور ایک شخص (اس) شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم! ان رسولوں کی راہ پر چلو۔

۲۱. ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔

۲۲. اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

۲۳. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر (اللہ) رحمن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ مجھے بچاسکیں۔

۲۴. پھر تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔

۲۵. میری سنو! میں تو (سچے دل سے) تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔

۲۶. (اس سے) کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش! میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔

۲۷. کہ مجھے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔